



سوال

جب نماز پڑھتے ہوئے کپڑے کی نجاست میں شک ہو

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب امام کو نماز پڑھتے ہوئے کپڑے کی نجاست پر شک ہو اور وہ محض شک کی بنیاد پر نماز کو نہ توڑے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد واقعی کپڑے کو ناپاک دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس قسم کی صورت حال میں کیا محض شک کی بنیاد پر نماز ختم کر دے یا نماز کو پورا کرے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب نماز پڑھتے ہوئے نمازی کو اپنے کپڑے کے بارے میں ناپاکی کا شک ہو تو اس کے لئے نماز کو توڑنا جائز نہیں خواہ امام ہو یا متقدمی اسے اس حالت میں بھی نماز پوری کرنی چاہئے اور نماز سے فراغت کے بعد اگر معلوم ہو کہ کپڑا واقعی ناپاک تھا تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اس نماز کی قضاء بھی لازم نہیں کیونکہ اسے ناپاکی کا یقین نماز کے بعد ہوا ہے حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سحابت نماز جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین ناپاک ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں نعلین اتار دیئے اور نماز کو بدستور جاری رکھا اور ابتدائی حصہ کو دوہرایا نہیں تھا۔ (1)

(1) سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی النعل، ح: 650

حدیث ما عنہم والی اللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 274

محدث فتویٰ